

برائے فوری اجراء

## NBA فائنل کے میچ گارڈن اسکوائر، ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں براہ راست دکھائے جائیں گے

برامپٹن، آن (29 مئی 2019) – NBA فائنلز میں ٹورانٹو ریپٹرز - ایسی شاندار کامیابیاں حاصل کرنے والی کینیڈا کی پہلی ٹیم - کی تاریخی پیش قدمیوں کی خوشیاں منانے کے لیے تمام فائنل گیمز کو گارڈن اسکوائر، ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن سے براہ راست نشر کر کے سٹی آف برامپٹن کو فخر محسوس ہو رہا ہے۔

ٹورانٹو ریپٹرز اور موجودہ چیمپیئن، گولڈن سٹیٹ وارینرز کے درمیان کھیلی جانے والی سیریز کو ایک آؤٹ ڈور بڑی اسکرین پر نشر کرنے کے حقوق گارڈن اسکوائر نے حاصل کر لیے ہیں، جس کا آغاز بروز جمعرات مورخہ 30 مئی کو رات 9 بجے سے ہو رہا ہے۔

شائقین خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنی کرسیاں اور کمبلیں وغیرہ اپنے ہمراہ لائیں اور ریپٹرز سٹار کاوی لیونارڈ اور وارینرز سٹار اسٹیفن کری کے درمیان لڑی جانے والی اس سیریز کے دوران انتہائی پرجوش لمحات دیکھنے کی توقع رکھیں۔

ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں کوئین اور مین اسٹریٹ کے کونے پر واقع گارڈن اسکوائر میں ہر عمر کے لوگوں کے لیے کئی اقسام کے دلکش اور پرجوش پروگراموں، تقریبات اور مفت تفریحی پروگراموں کا انعقاد پورا سال ہوتا رہتا ہے۔

پر مزید جانیں [www.brampton.ca/gardensquare](http://www.brampton.ca/gardensquare)

### اقتباس

"یہ وقت کینیڈا کے لیے انتہائی پرجوش ہے اور ہم برامپٹن میں ایک نئی توانائی پھونکنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تمام رہائشی جن کا تعلق GTA سے ہے وہ سب یہاں پر تشریف لائیں اور گارڈن اسکوائر میں نصب شدہ ہماری 100 فٹ لمبی اسکرین پر ٹورانٹو ریپٹرز کی خوب حوصلہ افزائی کریں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر رابطہ کریں۔ اور انسٹاگرام پر رابطہ کریں۔

### میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)